

PREM CAND: NAMAK KA DARGHA

(1)

p.191 mēhkema	مکہما	department
qaym hona	قائم ہونا	be established
xwdadad	خدا داد	God-given, natural
nemet	نہت	blessing, bounty
fayda wjhana	فائدہ ایجاد	make use of, draw benefit from
mwmancet	محالعنت	prohibition, hindrance
dervaza-e sadr	دروازہ صدر	main door
rowzen	روزن	chimney-hole: window
syaf	شقافت	crack, cranny
ki fykr kerna	کی فکر کرنا	think about
xeyanet	خیانت	dishonesty
yebn	یہب	fraud
tehris	تھریس	making greedy
bazar germ hona	بازار گرم ہونا	(market to become warm =) become prevalent, be widespread
petvargeri	پٹوارگری	being a <u>patwari</u> /village accountant
mwezzes	موزز	honourable
pwr-menfeet	پرمنفت	useful
whda	وحدہ	office, job
siya	سیفہ	department, office
berq-əndazi	برقندازی	being a peon/messenger/constable
daroya	دارویہ	inspector
refk	رفق	envy
bays	بائس	cause
isaist	یسائیست	Christianity

mrteradyr

مُتَرَدِّيٌّ

synonymous

sened-e yftyxar

سِنْدَهُ اَفْتَخَارٍ

warrant, charter of pride

ala-terin

الْأَلَى تَرِينٍ

the very highest

mədaryj

مَدَرِيجٍ

degrees, stages

qabyl

قَبْلٍ

able, capable

zwleykha ki dastan

زَلِيلَةُ كِي دَسْتَانٍ

'the tale of (Yusuf) and Zulaikha' one of the most famous Persian romantic themes, the best-known poem being that of Jami

majnun-o-farhad ke qisse

مَاجِنُونُ وَفَرَحَادُ كَيْ قِيسَ

'the stories of Majnun and Farhad', two other famous Persian romances, the best known poems being by Nizamî

daryaft

درِيَافَتٌ

discovery

jang-e nil

جَنْجِيْ نِيلٍ

battle of the Nile (the one Nelson won?!)

ezim-ter

عَظِيمٌ تَرِ

greater, mighty

vaqya

وَاقْعَدَهُ

event

rozgar

رُوزْغَارٍ

a living subsistence

jehan-dida

جَهَانِ دِيدَهٍ

experienced, worldly-wise

bwzwrg

بَزْدَكٍ

old man

p.192 samjhane

سِمْحَانَا

tell, advise

halet-e zar

حَالَتْ زَارٍ

sad state

qerza

قَرْضٍ

debt, loan

gerden debna

جَرْدَنْ دِبَنَا

neck to be crushed/bent

lepkian

لَكْبِيَانٍ

(for whom dowries would have to be provided)

genga jemna

شَجَنَا جَمَنَا

Ganges and Jumna

behne

بَهْنَا

increase, grow up

kegara

كَهْرَارَا

'on the edge of (a river)'
(cf. Platts ?)

malyk-o-mwxtar

مَالِكُ وَمُخْتَارٍ

lord and master

mwfahyra

مَثَاجِرَهُ

monthly salary

mezar

مَزَارٍ

tomb

(3)

nygah	نگاہ	look
cephava	چھاوا	sacrifice, offering
balai regem	بالائی ریشم	surplus emoluments; perquisites, bribes
amed	امد	income
mahvar	ماہوار	monthly
purenumasi	پورے نمازی	full moon
ghetna	گھٹنا	wane
rayb ho-jana	رایب ہو جانا	disappear
bekna	بکنا	flow
sota	سوتا	spring, stream
pyas	پیاس	thirst
bwjhna	بجھنا	be quenched
berkat	برکت	blessing
vayb	ویب	the Unseen
alym-o-fazyl	علم و فاضل	scholar
zemir	زمیر	heart, mind, (secret) thoughts
qiafa	قیافہ	appearance, physiognomy
pehcan	پہچان	recognition
mwnhesyr	مونھسیر	limited, dependent
yerez-mend	مرغ مند	someone who wants something
be-rehmi	بے رحمی	mercilessness
be-rwxi	بے روختی	shamelessness
be-yerez	بے مرغ مند	someone who doesn't want anything
gyreh mej bairdh lena	گرہ بیڑ باندھ لینا	(tie in a knot =) remember well
kemai	کامی	'earnings', fruit
p.193 bwzwrgana nesihet	بزرگانہ نصیحت	'paternal advice'
dwaia	دعا	benediction
kelmat	کلمات	words
bari	باری	turn

seadet-mond	سعادت مدن	dutiful, obedient
tevejjwh	توہج	attention
vesi	ویسی	wide, broad
ystyqbal	ستقبال	future
refiq	رفیق	companion
hymmet	ہممت	spirit, courage
madedgar	مدھگار	helper
mwrebbi	مرےبی	patron
swgun	شکون	omen
xubi-e qysmet	خوبی قسمت	good fortune
maqul	محقول	reasonable
thykana	ثکانا	limit
bay bay ho jana	بای بای خوش جانا	be delighted
kelver	کلوار	distiller, drink-seller
teskin-o-tejeffi	تسکین و تلشی	calming and soothing
sened	سنڈ	certificate, warrant
peposi	پوسی	neighbour
hesed	حسد	envy
mehajen	مهاجن	money-lender
sext-giri	حکمت بیڑی	extortion, exactation
nayl-ba-narmi	نالہ بہ نرمی	inclining towards leniency

(2)

jara	جارا	winter
cawkidar	چوکیدار	watchman
ferab-xana	فراہت خانہ	wine-shop
darban	درہان	doormen
ersa	عرسہ	interval
ferz-jynasi	فرز شناصی	obedience, dutifullness

(5)

diyanet	دیانت	honesty
etybar	ایتیبار	trust, confidence
be-etybari	بے ایتیباری	mistrust
pureb	پورب	east
ki janyb	کی جانب	in the direction of, towards
nedi	ندی	river
bekna	بکنا	flow
kyjtion ki gwergah	کیجٹیون کی گزرگاہ	bridge of boats
mithi nind	میثی نیند	sweet sleep
p.194 yekayek	یکاکی	suddenly
khwlna	کھولنا	open
ewhana	سہنا	pleasing, pleasant
rag	رگ	music
gari	گاری	cart
for-o-ywl	شور و غل	noise, uproar
mollah	ملح	boatman
bwlend	بلند	loud
ytni rat gee	یتنی رات گئے	"so late at night"
par jana	پار جانے	cross
deya	دعا	freud, dishonesty
porda-e tarik	پرڈہ تاریک	veil of darkness
swb(h)a	سے	doubt, suspicion
ystydial	استدلال	seeking proof
teqvyyet kerna	تلقیت کرنا	strengthen, confirm
verdi	وردی	uniform
tepance	ٹپنے	pistol
an ki an men	آن کی آن میں	in an instant
behana	بہنا	urge on
gytar	گیتار	line

zwif-e mehbub

نَلْفِ مُحْبُّ

"tress of the beloved"
 (proverbial for their length,
 and so spoken of in ghazals,
 etc.)

tulani	طُولانی	long, extensive
pwl	پل	bridge
hakymana	حاکمانہ	loudly, official
endaz	اندران	tone
swnnaṣa	سُنناٹا	stunned silence
sergoſi	سُرگوشی	whispering
egle ga-yi-ban	اُغلے گای بان	the driver of the front cart
cownjkna	جو لکنا	start in astonishment
ylaqe	بلاد	region
mwm̄taz	ممتاز	distinguished
zemindar	زمیندار	landowner
lakhon ki hwnqian	لکھوں کی بندیاں	bills of exchange for lakhs (of rupees)
yella	یلہ	grain
kar-o-bar	کارڈ بار	business, dealings
sahyb-e eser	صاحبِ اثر	powerful, influential
hwkkam-res	حکام رسی	having access to officials [N.B. misprint]
sykar khelna	شکار کھیلانا	hunt
P.195 seda-beret	سد اپرٹ	alms, food distributed daily to the poor
xamoſi	خاموشی	silence
alem	اعالم	state, condition
tari ho-jana	تاری ہو جانا	overcome
yeqin	یقین	certainty
dərja	درجہ	stage
nakam	ناتمام	unsuccessful
gungja	گونجہ	dumb
ledna	لدنہ	load

eb ke	اب کے	on this occasion
bore	بُورا	sack
tetolna	تُولنا	feel, grope
hem-syof	ہم آٹو شف	embracing = was converted into
dhela	ڈھلنا	lump
sejila	سچلنا	elegant
reth	رٹ	carriage
defeten	دفتان	suddenly
daroga	داروگا	(vulgar pronunciation of داروغہ)
shat	شات	crossing-place, wharf
mebley aleyhyssalam	صلی علیہ السلام	cash, upon whom be peace!
emeli	علی	practical
dinya ka zykr hi kya	دنیا کا ذریعہ یا	let alone this world....
dewlet	دولت	wealth, riches
sykka	سک	coin
bykyft	بیکفت	paradise
rayj hona	رائج ہونا	be current
qewl	قول	saying
p.196 heq	حق	truth
yusaf	الیاف	justice
khylewna	کھلونا	toy
heeb-e zeruret	حصب فرعت	'as and when necessary'
ji behlana	جی بھلانا	amuse oneself
lejna	لٹنا	lie down
emirana	امیران	lordly
be-pervai	بے پروائی	carelessness
ytainan	الٹینان	composure
biya legana	بیڑا لگانا	prepare pan for chewing

(8)

lyhaf	لایف	guilt
ciphna	اوڑھنا	put on, cover oneself with
be-tekellwfana	بے تکلوفانا	unceremonious, informal
ejirbad	اُشیباد	blessing(s)! (a Hindu greeting)
nezer-e ynayet	نظر خدا پخت	look of favour
pehcanna	پھکاننا	recognize
be-etynai	بے اشنای	carelessness, unworried-ness
serkari hwkm	سرکاری حکم	'official orders!'
nshij jante	نسی جانتے	'I don't recognize'
gher ka manla	گھر کا معاشر	domestic affair
baher hona (se)	بہر ہونا (دستے)	be beyond; disagree with, disregard
nahaq	ناہق	unjustified, unjustifiably
devta	دلوٹتا	god
bhenj cephana	بھنچ چڑھانا	make offering, sacrifice to
firin-zebani	شیری زبانی	sweet speech, fair words
dyyanet-dari	دینکش داری	honesty
jof	جوش	upsurge
kepekna	کوکنا	'burst out'
nemek-heram	نکھل حرام	faithless wretch
p.197 kewpi	کوڑی	cowrie, very small coin
becna	بچنا	sell
hyraset	حراست	custody
baqayda	بات اورہ	regular
calan	پالان	warrant
furset	فرصت	time, leisure
jemedar	جودار	sergeant
heya-xah	ہوا نواہ	friend
helcel	ہلچل	hub bub, to-do
yttyfaq	(تفاق)	occasion

age baphna	اگے بپھنا	advance
fert-e rob	فرط، عقب	('abundance of awe' =) overcome by awe
hymmat pejma	بھت پھرنا	dare
be-niaz	بے نیاز	independent
be-yerez	بے خوش	disinterested
sekta	سکتا	trance
tyfl-e maktob	ظفیر کتب	schoolboy
naz-o-ondaz	نڑواں اڈا	style, airs and graces
manus	مانوس	acquainted
elliher	الہر	raw, inexperienced
jhyjakna	جھینکنا	be shy
nas-berdari	نذر برداری	flattery
mwnkesyrana	منکرانہ	humble, distressed
zwlm	ظلم	cruelty
myt-jana	مٹ جانا	be destroyed
yzzet	غرت	honour
ynam ykram	انعام اکرام	favours and honours, rewards and dignities
198 sehara	سہارا	prop, support
cetan	چیل	rock
khysekna	کھسلنا	slip away
etymad-e nefz	انقادر لفظ	self-confidence
yrur-e dewlet	غور در دلت	pride in his wealth
sedna	سندھ	blow
tadadi	نعدادی	numerical, quantitative
qvvvat	قوت	strength
bherosa	بھروسہ	trust
mwxtar	مشتر	agent, factotum, bailiff
nezer kerna	نذر لئنا	offer, present to

bhuke fer	بھوکے شیر	(like a) hungry tiger
hetana	ہٹانا	turn aside
xam-karana	خام کارنا	awkward, crude, inexperienced
jesaret	جارت	boldness, presumption
zahydana	زاہدان	ascetic
nefs-kw̄jī	نفس کشی	(self-) mortification
jhwn-jhiana	جھن جھانا	be irritable, rage
maryke ka	مرے کا	"fierce" (of a battle field)
keʃmekəʃ	کشمکش	struggle
pao-o-tab khana	پاؤ دتاب کانا	writhe: be anxious, distressed angry: twist and turn
mayusana	مایوسانہ	desperate
joʃ	جوش	passion, vehemence
hemla	حملہ	attack
newbet pawhwyjna	نویبت پھینا	things to come to a pass, recourse to be had to
merdans	مردانہ	brave, manly
sypah-e azim	سپاہِ اعظم	mighty army
ke mwqabyle meij	کے مقابلے میں	facing
yekka-o-tenna	یکہ و تنہا	all alone
etel	اٹل	fast, steadfast, unyielding
p.199 aynda	آنے	for the rest, in future
yrttyar	آپ کو اختیار	"it's up to you," "do as you please"
lelkarna	لکارنا	challenge, shout to
galiq dena	گالیاں درجنہ	curse
qedem	قدم	step, pace
het jana	ہپتانا	withdraw
nyhayet	نیابت	extremely
mynnet-ames	منکر امیز	humble, full of entreaty
be-kesi	بے کسی	helplessness

isver	الشود	God (Hindu word)
rehm kerna	رحمنا	take pity on
mamla kerna	معاملنا	bargain, do business
reyrr-uwakyn	غير عکن	impossible
hyraset	حراست	custody
tele	تل	beneath
kwoelna	کیلنا	trample
qewi-heykel	قوی ہیکل	powerful-looking
hatkeyi	ھاتھی	handcuff
carenj teref	خاروں طرف	on all sides
nygah dalna	نگاہ دلانا	cast look
rej khana	خش کھانا	faint, pass out

(4)

p.200	ragya	واقد	event
	geli-kuca	گلی کچ	street and alley
	melamat	ملامت	blame
	tehqir	تھیر	contempt
	seda	سدا	cry
	vvjud	وجود	existence
	gwala	گوالا	milkman
	ferzi	فرزی	imaginary
	roznamca	روزنامہ	(diary) account-book
	hwikkam	حکام	officials
	jali	جلی	counterfeit
	deatavez	دستاویز	bond, note of hand
	seth	سٹھ	banker
	sahukar	ساحکار	money lender

(12)

parsa	پارسا	ascetic
gerden hylana	گردن ہلنا	shake the head (lit.: 'neck')
mwaxxa	مواخدہ	charging (in court)
jhwkana	جھکانا	bow
yem	یم	grief, pain
hel-cel	ھلے	uproar
mela	میلا	fair
fewq-e nezzara	فیوق نےڑار	desire for a spectacle
mheng	مہنگ	excessive longing, rapture
kesret-e hwjum	کسٹر جووم	'abundance (density) of the crowd'
seqf	سقفت	roof, ceiling
temiz kärna	تینز کارنا	distinguish
qwlzwr-e napoyda-kynar	قلزم نبیڈا کنار	boundless ocean
nyheng	نیھنگ	crocodile, shark
qeder-synas	قدیر شناس	knowing value of, appreciative
emla	علم	subordinate official, clerk
nyaz-mend	نیاز مند	client
vekil	ولیل	barrister
mwxtar	مختار	solicitor
naz-berdar	ناز بردار	flatterer
coprasi	جيپراسي	peon, messenger
dyrem na xerida	دریم ناخربیده	unbought for a dirham (= bought for even less); <u>or read</u> دریم خربیده
ywlam	یلام	slave
p.201 engwjt berdendaj hona	انگشت بردندال ہونا	bite finger (in astonishment)
fel	فل	(shameful) deed
penja	پنجہ	grip, grasp
mwhal	میال	impossible
jadu qalna	جادو گالنا	bewitch

cerb-zebani	چرب زبانی	glibness, fine talk
sykar	شکار	prey
yzhar	اظہار	expression
desta	دستہ	band
secai	سچائی	truth
saf-beyani	صاف پہانی	frankness
hethyar	تھیمار	weapon
ystiyasa	استیسا	prosecution
sehadat	شہادت	evidence, witness
teryibat	تریبیات	inducements
daryaqol	دول	uneasy, insecure
khyea hua	کھیا ہوا	drawn away
sim-o-zer	سیم و زر	silver and gold
be-nyaz	بے نیاز	not needing, spurning
yftyaq	اشتیان	desire
zwhur mey	طور میں	in the open
davet	دعوت	invitation
twhfa	خفہ	present
zahyd-fereb	زابد فرب	leading ascetics astray
edalst ka dørbar	درالٹ کا دربار	court of justice
erkan	ارکان	pillars
neja chana	شہچانا	intoxication to overcome
feysel ho-jana	فیصل ہونا	be decided
tejviz	نجویں	verdict
p.202 mohmal	بیمل	absurd, unconvincing
sahyb-e servet	صاحبِ سروت	wealthy
reis	رئیس	aristocrat
məhz	مُنْهَنْ	merely
fayda	نایدہ	advantage, profit
kemina	کینہ	mean, low

herket	حَرْكَت	action
mwrtekyb	مُنْكِبٌ	committing, perpetrating, guilty of
sengin	سَنْجِنٌ	severe, serious
efsosnak	إِنْسُوْنَك	regrettable
xankarana	خَامِكَارَاش	crude, inexperienced
sergermi	سَرْجِي	seal
yizam	إِنْزَامٌ	charge
ayd hona	عَادِهِ هُونَا	be laid against
fers-jynas	فَرْجُ شَنْيَاش	knowing his duty
etydal	إِنْتَدَالٌ	moderation, reasonableness
ymtyaz-o-ydrak	إِنْتِيَازُ وَادْرَاكٍ	discrimination and judgment
maylub kerna	مَلُوبٌ كَرْنَا	overcome
hojyar	هُوشْيَارٌ	sensible
wchel peyna	إِعْصَلٌ بِيَرٌ	jump up (with joy)
hevali	حَوَالِي	"entourage"
barsana	بَرْسَانَا	rain
sexavet	سَخَارَت	generosity
ferax-hewsylegi	فَرَاعُ حَوْصَلَى	magnanimity
seylab	سَيْلَابٌ	torrent
hylna	بَلَّا	shake
ywrur	غَرْوَرٌ	pride
lebrez	لَبَرْزَانٌ	overflowing
tan	طَعْنٌ	blame, reproach
tameaxwr	تَمَنْزُورٌ	joking, mockery
nefa-e ywrur	نَشَاءُ غَرْوَرٍ	intoxication with pride
heva-e serd	هَوَاهُ سَرْدٌ	cold
ekerns	كَرْدَلَةٌ	strut, walk proudly
p.203 penj-harfı	پِنْجْ حَرْفِي	5-letter
xytabat	خَلَابَاتٌ	titles

dhila dhala	ڈھیلا ڈھالا	loose, flowing
cwya	چویا	robe
mwstehaq	مشتھق	deserving

(5)

	شہوت	
servet		wealth
rwsux	رسون	influence
beyr mol lena	بیر مل لینا	buy (= provoke) shyness
qimet dena	قیمت دینا	pay the price
vajyb	واجیب	necessary
mwjkyl se	مکمل سے	scarcely, hardly
mwetteli	مطلع	suspension, dismissal
pervana	پروانہ	warrant
seza	سزا	punishment
dyl-jykesta	دل شکستہ	heart-broken
	پریشان مال	
perijayhal		upset
bedzen	بیدن	suspicious
celte celte	چلتے چلتے	'as he was leaving'
ek (bat) na swni	ایک بات نہ سنبھالی	'hadn't paid any attention'
kelvar	کلوار	drink-seller
bucer	بوجر	butcher
tegaza	تھامنا	dunning (for debts)
sehna	سہنا	suffer, endure
bwphapa	بڑھاپا	old age
bheget	بھگت	devotee, holy man
sukha	سوكھا	'miserable'
whde-dar	وھدہدار	holder of (big) job, 'officer'
dyl khol-ker	دل کھل کر	without inhibition

gher mej .. jelaenge *جلا بیس کے... حرم*

'you'll leave your home in darkness, provided lamps are burning in the mosque' (i.e. sacrifice one's personal profit for sake of doing right).

hayf	جیفت	alas for! shame on!
skaret	اکارت	for nothing, useless
wsi esna mej	اسی اشنا بیں	meanwhile
ruedad	روئیاد	account
pifna	پیٹنا	beat
phoyna	پھوڑنا	split, break
p.204 pao(h) tana	پکانا	regret
kef-e efsos melna	کھٹ افسوس ملنا	wring hands in sorrow
sext-swat kehna	سخت سوت کہنا	reproach, scold
tel-jana	تل جانا	withdraw, retreat
emali	علی	practical
yxtyar kerna	اختیار کرنا	assume
sedma	صدمہ	blow, shock
jegen-nath	جن ناٹھ	+ names of Vishnu
rameʃver	رامیشور	desire, hope, 'prayers to'?
arzu	آرزو	be ruined
xak mej mylna	خاک بیس ملنا	directly, politely
sidhe murjh se	سیدھے مرجم سے	kinsman
yegana	یگانہ	ill-temper, moroseness
twrʃ-rui	ترش روٹی	stranger, non-kinsman
begana	بیگانہ	heart-piercing
dyl-doz	دل درز	rosary with the names of Rám on it
ram-nam mala	رام نام مالا	(turn =) tell (rosary)
pherna	پھرننا	elegant, ornate
seja hua	سجا ہوا	carriage
reth	رٹ	

gwlabi	گلابی	pink
pechaej	پکھائیں	Western
nosl	نسل	stock
beyl	بیل	bullock
dhaga	دھاگ	ribbon
sing	سینگ	horn
pital	پیتل	brass
mənjhna	منجھنا	cover
peʃvai	پشوٹی	meeting and receiving (a guest)
dənqvet kerna	ڈنڈوٹ کرنا	prostrate oneself
mwdəbbyrana	مدبرانہ	prudent, politic
dwr-fyʃani	درفتانی	('pearl-shedding') eloquence, polite speech
kawnse mujh dikhaej	کون سا نہ دکھائیں	'how can I show myself to you?'
mujh menj kaled	منجھیں کالاں	'straw in the mouth' (as token of humble submission)
na-layq	نالایق	good-for-nothing
na-xelaf	ناخلاف	undutiful, wicked
verna	ورنا	otherwise
mwnjh chwpana	منجھ پھیانا	hide, avoid, skulk out of sight
iʃver	ایشور	God
be-cyray	بے چران	childless (lit. 'lampless')
mwsafeha	محفاظہ	shaking hands
ʃan-e xwd-dari	شان خودداری	self-respect
p.205 gwman	گمان	thought, suspicion
jylana	جلانا	restore to life, patronize
ʃerminda	شرمندہ	bashful, ashamed
mazyret	مذمت	excuse, apology
xwlus-e revaj	خلوص رواں	candour, sincerity
qəta-kəlam kerna	قطع ملائم کرنا	interrupt

qyafa-synasi	پیافہ شناسی	science of physiognomy
jos	جوش	heat
fexr-e xandan	فخر خاندان	pride of the family
seput	سیبوت	good son, dutiful
permatma	پرماتما	God
fwkr-gwzar	فکر گزار	grateful
nysar kerna	نثار کرنا	sacrifice
zemana-sazi	زمانہ سازی	hypocrisy
xwd-be-xwd	خود بخود	'of my own free will'
ali-merteba	علی مرتبہ	of high rank
sabyqa pejna	سابقہ پڑنا	have dealings with
zer kerna	زیر کرنا	subdue, overcome
bu		scent

p.206 wpti hui mager talaʃ
کی نیگاہ

کوئی پوچھ لائیں تھا		
sedaqet	صدق اقت	sincerity
gaʃha	غارہ	deep, firm
jkelek	جکلک	radiance, splendour
nədamet	ندامت	repentance
rah dena	راہ دینا	give way (to)
ʃermana	شرمانا	be ashamed, humble
zerra-nevazi	ذرہ نوازی	('particle - cherishing') great kindness
ap ki san mej	آپ کی شان میں	'against your excellency'
be-ədəbi	بے ادبی	rudeness, incivility
məjbur kerna	جبور کرنا	force
xak-e pa	خاک پا	dust under your feet
yrʃad	ارشاد	will, command
be-hedd-e ymkan	بے حدیمکان	'to the limit of my ability'
tamil	تھیل اغار کرنا	carrying out
yñkar kerna	الغار کرنا	refuse

yltyja-anmez	الْتَّيَا أَنْمِزْ	humble, beseeching
red kerna	رَدْ كَرْنَا	refuse
qabul	قَبْلَ	capable, able
naciz	نَاجِزْ	worthless
dorey	دَرْجَة	refusal, holding back
mwxtar-nama	مُخْتَار نَامَه	power of attorney
telna	طَلَنَه	withdraw
p.207 mwlkiet	مُلْكِيَّة	property
mwxtar-e am	مُخْتَار حَامِ	general agent
qerar dana	قَرْدَه دَنَاه	appoint
jeb-e xas	جَبْ خَاص	privy purse
yxtyarat	إِخْتِيَارَات	powers
yeyr-mahdud	فَيْرَ مَحْدُود	unlimited
ynsayat-e bekeraj	سَيَّاَت بَهْ تَرَان	limitless favours
ala	أَعْلَى	lofty
rwtba	رَتْبَه	rank, position
tarif	تَوْلِيف	praise
metin	مُتَبَّلِ	serious
nurani owsaf	نُورَانِي اُوْسَاف	'of illustrious qualities'
bwzwrg	بَرْزَج	great man
ferasat	فَرَسَت	sagacity, judgment
xami	خَامِي	lack of experience, awkwardness
perda dalna	بِرْدَه دَالَنَا	conceal
mwezzez	مُغْزَز	noble, distinguished
mamla-fehm	مَعْلَمَه فَهْم	expert
kar-karda	كَارْ كَرْدَه	experienced
qeledan	قَلْمَذَن	pen-case
kar-kerdagi	كَارْ كَرْدَه جِي	experience
sang-reza	سَنْجَرِيزَه	gravel, pebble
p.208 jehher	جُوْهَر	jewel

barha	بارہا	often
perekhna	پرکھنا	examine, assay
hwsn-e tqadir	حسنِ تقدیر	good fortune
hwsn-e yttyfaq	حسنِ الفاق	lucky chance
be-beha	بے بہا	priceless
ab	آب	lustre
cemek	چمک	glitter
teemowl	تامل	hesitation, delay
perastna	پرستنا	God
ylytyja	اللہیا	prayer
seda	سدا	always
be-mwrrvvvet	بے مرد	merciless, rude
sext-zeban	سخت زبان	harsh-tongued
twnd-myza j	تند مزاج	fierce
dəbəbabana	ڈب بابا	be filled (to overflowing)
teng	ٹنگ	narrow, tight, restricted
zerf	ظرف	vessel
yhsan	احسان	gratitude
semana	سوانا	be contained
əqidət	غایدت	faith
perestyj	پرستی	worship, devotion
fert-e mesarret	مشتی	abundance of delight
gəle ləgana	گلے لگانا	embrace